

## Passage-1

مذہب صدیوں سے انسانی تہذیب کا اٹوٹ حصہ رہا ہے۔ یہ عقائد اور اقدار کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے جو افراد اور برادریوں کی رینمائی کرتا ہے۔ مذہب اکثر زندگی کے سب سے بڑے سوالات کے جوابات پیش کرتا ہے، جیسے کہ وجود کا مطلب اور مصائب کا مقصد۔ یہ تعلق اور برادری کا احساس بھی فراہم کر سکتا ہے، ساتھ ہی مشکل کے وقت سکون اور امید کا ذریعہ بھی۔

Svo

## Translation Passage:1

For centuries, religion has been remained the main part of human civilization. It provides an outline for the privilages of individuals. This guides individuals and communities. Religion often answers the questions in life. It is like the mean of existence is the aim of religions. This provides the feelings of relationship and brotherhood. Also, religion is the tool of peace in hurdles and hope for the best future.

**Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.  
(10)**

تاریخ ایسے کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہے جہنوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی مشکل ترین حالات سے کیا لیکن اگے چل کر وہ دنیا کے کامیاب اور نامور شخصیات میں شمار ہونے۔ کامیابی، عزت اور شہرت آپ کو کبھی پلیٹ میں رکھ نہیں دی جاتی صرف دولت ہی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دی جاسکتی ہے اس کے لیے بھی ایک شرط لازم ہے کہ وہ آپکے آباو اجداد کے پاس جائیداد ہونی چاہیے پھر ہی آپکو دولت ملے گی۔ دولت سے آپ دنیاوی لوازمات تو خرید سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں خرید سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو عزت کمانے میں کنی دہانیاں لگ جاتی ہیں نلت کمانے میں یا متنازع بنتے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔

History is full of such successful people who began their lives from hardships. later, they became the part of most prominent and successful personalities. Respect and fame will never be given easily. The only thing will be given to a person is wealth. There is also condition for giving wealth to a person. The wealth must be the provision of grandfather. A person can buy materialistic things through wealth but an individual will never buy happiness. Sometimes a person struggles profound period of times to earn respect but degradation can earned in a moment.